

# نظامت زرعی اطلاعات پنجاب

21- سر آغا خان سوئم روڈ لاہور

Ph.042-99200731, 99200729, Fax No.042/99202911 E.mail:ziratnama@hotmail.com

www.facebook.com/AgriDepartment

پریس ریلیز

خادم پنجاب پروگرام برائے پکن گارڈنگ

گھریلو پیمانے پر زہروں سے پاک نامیاتی سبزیاں اگائیں

اخراجات میں کمی کے ساتھ صحت پائیں

زرعی زہروں سے محفوظ سبزیوں کا گھر میں حصول، انسان بیماریوں سے دور

لاہور 16 اکتوبر 2017: خادم اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ زراعت کی جانب سے گھریلو پیمانے پر 5 مرلہ کاشت کے لیے ارزاں نرخوں پر موسم سرما کی سبزیاں گاجر، مولی، شلجم، پالک، دھنیا، سلاد، میتھی اور سرسوں کے بیجوں کے پیکیٹس کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ موسم سرما کی سبزیاں 30 اکتوبر تک کاشت کی جاسکتی ہیں۔ گھروں میں سبزیاں اگا کر من پسند کھانے تیار کیے جاسکتے ہیں۔ گھر میں اگائی گئی سبزیاں زرعی زہروں سے پاک ہوتی ہیں، زرعی زہروں سے پاک اور تازہ سبزیوں کے استعمال سے انسان کو بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، سبزیوں کی بروقت کاشت اچھی پیداوار کی ضامن ہے۔ جڑی بوٹیوں کو بذریعہ رمبہ یا ہاتھوں سے تلف کرتے رہیں۔ چھوٹے پلاٹوں میں ایسی سبزیاں کاشت کریں جو زیادہ دیر تک پیداوار دیتی ہوں جن میں پالک، میتھی، دھنیا وغیرہ شامل ہیں۔ کھیلوں پر کاشت کریں، ہموار سطح پر کاشت کی گئی سبزیوں پر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں جن میں جڑ کا اکھیڑا اور مرچوں میں کالمرٹ وغیرہ شامل ہیں۔ سبزیوں کو ان بیماریوں سے محفوظ بنانے کے لیے بروقت اقدامات کریں۔ سبزیوں کے لیے ایسی جگہ کا استعمال کریں جہاں دھوپ کم از کم 8 گھنٹے رہے۔ سایہ دار جگہوں پر سبزیوں کی پیداوار اور بڑھوتری متاثر ہوتی ہے۔ سبزیوں، گملوں، ٹوکریوں، ٹین یا پلاسٹک کے ڈبوں، پلاسٹک کے شاپنگ بیگز، پرانے ٹائرز وغیرہ میں بھی کاشت کی جاسکتی ہیں۔ روزانہ 5 سے 16 منٹ کی دیکھ بھال سے پودوں پر بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملوں کا بروقت تدارک بھرپور پیداوار کے حصول کے لیے ان میں ایک حصہ مٹی، ایک حصہ بھل اور ایک حصہ گوبر کی گلی سڑی کھا ڈالیں۔ پودوں میں بڑھوتری کے لیے اس میں نمی سوکھنے نہ دیں۔ سبزیوں کو زیادہ پانی نہ لگائیں تاکہ پانی کنٹینر سے خارج نہ ہو۔